

۱۹۹۳ اوگوست راجسری میونسرپل کورپوریشن کورونہ


سورسٹریکٹس ۱۵/۹

پراجیکٹ نمبر، علاقہ، سیکٹر، پلاٹ نمبر

سورسٹریکٹس

پلاٹ نمبر، علاقہ، سیکٹر

سورسٹریکٹس	پلاٹ نمبر	علاقہ	سیکٹر
1	1	1	1
1	1	1	1
2.13.18.31	2.13.18.31	2.13.18.31	2.13.18.31
2.8.13.27	2.8.13.27	2.8.13.27	2.8.13.27
9	9	9	9
9.16.25.31	9.16.25.31	9.16.25.31	9.16.25.31
11.23	11.23	11.23	11.23
14	14	14	14
15	15	15	15
15.26.29.31	15.26.29.31	15.26.29.31	15.26.29.31
16	16	16	16
16	16	16	16
21	21	21	21
22	22	22	22
22.32	22.32	22.32	22.32
24.31	24.31	24.31	24.31
26	26	26	26



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



حکومت پنجاب کی وزارت خزانہ

کے

مقررہ نرخ

تاریخ: 15/93

حکومت پنجاب کی وزارت خزانہ 1993

مقررہ نرخ

22 جولائی 1414 . 7 ستمبر 1993

9.00

حکومت پنجاب کی وزارت خزانہ کی طرف سے جاری کیے جانے والے

مقررہ نرخ 37 ستمبر 1993

حکومت پنجاب کی وزارت خزانہ کی طرف سے جاری کیے جانے والے

مقررہ نرخ

حکومت پنجاب کی وزارت خزانہ کی طرف سے جاری کیے جانے والے

مقررہ نرخ

مقررہ نرخ

مجلس سادات اہل بیت علیہم السلام کے نام سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں

میں سے ہرگز نہ ہٹائے اور ہرگز نہ چھوڑے۔ آمین  
میں سے ہرگز نہ ہٹائے اور ہرگز نہ چھوڑے۔ آمین

میں سے ہرگز نہ ہٹائے اور ہرگز نہ چھوڑے۔ آمین

میں سے ہرگز نہ ہٹائے اور ہرگز نہ چھوڑے۔ آمین  
میں سے ہرگز نہ ہٹائے اور ہرگز نہ چھوڑے۔ آمین  
میں سے ہرگز نہ ہٹائے اور ہرگز نہ چھوڑے۔ آمین

میں سے ہرگز نہ ہٹائے اور ہرگز نہ چھوڑے۔ آمین

میں سے ہرگز نہ ہٹائے اور ہرگز نہ چھوڑے۔ آمین

میں سے ہرگز نہ ہٹائے اور ہرگز نہ چھوڑے۔ آمین  
میں سے ہرگز نہ ہٹائے اور ہرگز نہ چھوڑے۔ آمین  
میں سے ہرگز نہ ہٹائے اور ہرگز نہ چھوڑے۔ آمین



مجلس سادات اہل بیت علیہم السلام

The Library and Archives of People's Majlis

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، يَرْفَعُ أَقْدَارَ الْمُخْلِصِينَ.  
وَيُوَيِّدُ بِنَصْرِهِ الْمُؤْمِنِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ  
الْأَمِينِ. الْأَسْوَةُ الْحَسَنَةُ لِلْمُخْلِصِينَ الصَّادِقِينَ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



پس از آنکه در این کتابخانه، اسناد و کتابهای گوناگون گردآوری شده است

که در آنجا

کتابخانه مرکزی و اسنادخانه مجلس شورای اسلامی، اسناد و کتابهای گوناگون گردآوری شده است که در آنجا

کتابخانه مرکزی و اسنادخانه مجلس شورای اسلامی، اسناد و کتابهای گوناگون گردآوری شده است که در آنجا

کتابخانه مرکزی و اسنادخانه مجلس شورای اسلامی، اسناد و کتابهای گوناگون گردآوری شده است که در آنجا

کتابخانه مرکزی و اسنادخانه مجلس شورای اسلامی، اسناد و کتابهای گوناگون گردآوری شده است که در آنجا

کتابخانه مرکزی و اسنادخانه مجلس شورای اسلامی، اسناد و کتابهای گوناگون گردآوری شده است که در آنجا

کتابخانه مرکزی و اسنادخانه مجلس شورای اسلامی، اسناد و کتابهای گوناگون گردآوری شده است که در آنجا




چونکہ یہ ایک ایسی ہیئت ہے جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے تمام اراکین کو اپنے حقوق و فرائض سے باخبر رکھے اور ان کو اپنی فرائض سے آگاہ کرے۔

یہ تمام امور کو مدنظر رکھ کر

مجلس کو مطلع کیا گیا ہے کہ وہ اپنے تمام اراکین کو اپنے حقوق و فرائض سے آگاہ کرے اور ان کو اپنی فرائض سے آگاہ کرے۔

یہ تمام امور کو مدنظر رکھ کر

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ  
الَّذِينَ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا لَهِ عَلَيْهِ فَكَانُوا الْمُدَّةَ الرَّاشِدِينَ  
وَالْقَادَةَ الْمُصْلِحِينَ



14 مئی 1993ء

1	مجلس کو مطلع کیا گیا ہے کہ وہ اپنے تمام اراکین کو اپنے حقوق و فرائض سے آگاہ کرے اور ان کو اپنی فرائض سے آگاہ کرے۔
2	مجلس کو مطلع کیا گیا ہے کہ وہ اپنے تمام اراکین کو اپنے حقوق و فرائض سے آگاہ کرے اور ان کو اپنی فرائض سے آگاہ کرے۔
3	مجلس کو مطلع کیا گیا ہے کہ وہ اپنے تمام اراکین کو اپنے حقوق و فرائض سے آگاہ کرے اور ان کو اپنی فرائض سے آگاہ کرے۔
4	مجلس کو مطلع کیا گیا ہے کہ وہ اپنے تمام اراکین کو اپنے حقوق و فرائض سے آگاہ کرے اور ان کو اپنی فرائض سے آگاہ کرے۔
5	مجلس کو مطلع کیا گیا ہے کہ وہ اپنے تمام اراکین کو اپنے حقوق و فرائض سے آگاہ کرے اور ان کو اپنی فرائض سے آگاہ کرے۔
6	مجلس کو مطلع کیا گیا ہے کہ وہ اپنے تمام اراکین کو اپنے حقوق و فرائض سے آگاہ کرے اور ان کو اپنی فرائض سے آگاہ کرے۔

مجلس کو مطلع کیا گیا ہے کہ وہ اپنے تمام اراکین کو اپنے حقوق و فرائض سے آگاہ کرے اور ان کو اپنی فرائض سے آگاہ کرے۔





















مقامی حکومتوں کے بارے میں ایک مختصر تاریخ
مقامی حکومتوں کے بارے میں ایک مختصر تاریخ
مقامی حکومتوں کے بارے میں ایک مختصر تاریخ

مقامی حکومتوں کے بارے میں ایک مختصر تاریخ

مقامی حکومتوں کے بارے میں ایک مختصر تاریخ
مقامی حکومتوں کے بارے میں ایک مختصر تاریخ

مقامی حکومتوں کے بارے میں ایک مختصر تاریخ

مقامی حکومتوں کے بارے میں ایک مختصر تاریخ
مقامی حکومتوں کے بارے میں ایک مختصر تاریخ



Handwritten text in a cursive script, likely Persian or Urdu, covering the upper portion of the page. The text is dense and appears to be a collection of verses or a long narrative.

The Library and Archives of People's Majlis

Handwritten text centered below the library name, possibly a title or a specific reference.

Second section of handwritten text in a cursive script, continuing the text from the top section or as a separate entry.

وہذا... (The main body of the document contains a dense collection of Urdu text, which appears to be a series of repetitive or illegible characters, possibly representing a specific code or a highly stylized script.)

کراچی... (This line of text is located below the main body and likely refers to the city of Karachi.)

تاریخ... (This line of text likely contains a date or a specific reference related to the document.)



25/ - 30/ ...  
 40/ - ...  
 50/ ...

(مسحوق 10.30 کدہ - مسحوقی قیمت 11.00 کدہ)

مردم کے لئے مسالہ کی فراہمی کی ضمانت

اس کے لئے ...  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...

گورنمنٽ آف انڊيا جي ٻيٽن ۽ ٻيٽن جي ٺاهڻ لاءِ ٺاهيل قانون

۱. هي قانون انڊيا جي ٻيٽن ۽ ٻيٽن جي ٺاهڻ لاءِ ٺاهيل قانون جو عنوان آهي. هي قانون انڊيا جي ٻيٽن ۽ ٻيٽن جي ٺاهڻ لاءِ ٺاهيل قانون جو عنوان آهي. هي قانون انڊيا جي ٻيٽن ۽ ٻيٽن جي ٺاهڻ لاءِ ٺاهيل قانون جو عنوان آهي.

گورنمنٽ آف انڊيا جي ٻيٽن ۽ ٻيٽن جي ٺاهڻ لاءِ ٺاهيل قانون

۲. هي قانون انڊيا جي ٻيٽن ۽ ٻيٽن جي ٺاهڻ لاءِ ٺاهيل قانون جو عنوان آهي. هي قانون انڊيا جي ٻيٽن ۽ ٻيٽن جي ٺاهڻ لاءِ ٺاهيل قانون جو عنوان آهي. هي قانون انڊيا جي ٻيٽن ۽ ٻيٽن جي ٺاهڻ لاءِ ٺاهيل قانون جو عنوان آهي. هي قانون انڊيا جي ٻيٽن ۽ ٻيٽن جي ٺاهڻ لاءِ ٺاهيل قانون جو عنوان آهي.









دوست عزیز! در این روزهای مبارک و شاد، من و خانواده ام به شما و خانواده محترم تبریک عرض می‌کنیم. امیدوارم که این روزها برایتان سرشار از شادی و خیر باشد. ما را در این روزها به یاد داشته باشید و ما را در این روزها دعا کنید. ما را در این روزها دعا کنید. ما را در این روزها دعا کنید.

با احترام و مهر فراوان  
خانواده [نام خانوادگی]

دوست عزیز! در این روزهای مبارک و شاد، من و خانواده ام به شما و خانواده محترم تبریک عرض می‌کنیم. امیدوارم که این روزها برایتان سرشار از شادی و خیر باشد. ما را در این روزها به یاد داشته باشید و ما را در این روزها دعا کنید. ما را در این روزها دعا کنید. ما را در این روزها دعا کنید.

با احترام و مهر فراوان  
خانواده [نام خانوادگی]

دوست عزیز! در این روزهای مبارک و شاد، من و خانواده ام به شما و خانواده محترم تبریک عرض می‌کنیم. امیدوارم که این روزها برایتان سرشار از شادی و خیر باشد. ما را در این روزها به یاد داشته باشید و ما را در این روزها دعا کنید. ما را در این روزها دعا کنید. ما را در این روزها دعا کنید.



تبرهنانه و برهانه های فقهی و حقوقی که در مورد این موضوع  
 در فقه امامیه و فقه سنی و در حقوق ایران و حقوق بین الملل  
 و حقوق تجارت و حقوق مالیه و حقوق مجازات و حقوق  
 کیفری و حقوق مدنی و حقوق کیفری و حقوق اساسی و حقوق  
 اداری و حقوق پزشکی و حقوق هنر و حقوق ورزشی و حقوق  
 بازرگانی و حقوق نفت و گاز و حقوق کار و حقوق معیشتی  
 و حقوق خانواده و حقوق ورشکستگی و حقوق بیمه و حقوق  
 اوراق بهادار و حقوق بانک و حقوق پول و حقوق ارز و  
 حقوق طلا و سکه و حقوق عوارض و حقوق مالیات و حقوق  
 گمرک و حقوق مرز و حقوق مبادلات و حقوق ارز و حقوق  
 طلا و سکه و حقوق عوارض و حقوق مالیات و حقوق گمرک

حقوق تجارت و فقه تجارت در ایران و حقوق تجارت در سایر کشورهای

از جمله حقوق تجارت در ایران و فقه تجارت در ایران و حقوق تجارت  
 در سایر کشورهای جهان و فقه تجارت در سایر کشورهای جهان  
 و حقوق تجارت در ایران و فقه تجارت در ایران و حقوق تجارت  
 در سایر کشورهای جهان و فقه تجارت در سایر کشورهای جهان  
 و حقوق تجارت در ایران و فقه تجارت در ایران و حقوق تجارت  
 در سایر کشورهای جهان و فقه تجارت در سایر کشورهای جهان  
 و حقوق تجارت در ایران و فقه تجارت در ایران و حقوق تجارت  
 در سایر کشورهای جهان و فقه تجارت در سایر کشورهای جهان  
 و حقوق تجارت در ایران و فقه تجارت در ایران و حقوق تجارت  
 در سایر کشورهای جهان و فقه تجارت در سایر کشورهای جهان  
 و حقوق تجارت در ایران و فقه تجارت در ایران و حقوق تجارت  
 در سایر کشورهای جهان و فقه تجارت در سایر کشورهای جهان

تاریخچه و مبانی حقوق تجارت در ایران

تاریخچه و مبانی حقوق تجارت در ایران و فقه تجارت در ایران  
 و حقوق تجارت در ایران و فقه تجارت در ایران و حقوق تجارت  
 در سایر کشورهای جهان و فقه تجارت در سایر کشورهای جهان  
 و حقوق تجارت در ایران و فقه تجارت در ایران و حقوق تجارت  
 در سایر کشورهای جهان و فقه تجارت در سایر کشورهای جهان

The Library and Archives of People's Mailis

شماره کتاب: 36 و شماره سریال: 35 و شماره ثبت: 1

چاپ دوم، تهران، انتشارات مکتب دیناری، 1394

از جمله حقوق تجارت در ایران و فقه تجارت در ایران و حقوق تجارت  
 در سایر کشورهای جهان و فقه تجارت در سایر کشورهای جهان  
 و حقوق تجارت در ایران و فقه تجارت در ایران و حقوق تجارت  
 در سایر کشورهای جهان و فقه تجارت در سایر کشورهای جهان

از جمله حقوق تجارت در ایران و فقه تجارت در ایران و حقوق تجارت  
 در سایر کشورهای جهان و فقه تجارت در سایر کشورهای جهان

کتابخانه و آرشیو مجلس شورای اسلامی  
کتابخانه و آرشیو مجلس شورای اسلامی

کتابخانه و آرشیو مجلس شورای اسلامی

کتابخانه و آرشیو مجلس شورای اسلامی

کتابخانه و آرشیو مجلس شورای اسلامی

کتابخانه و آرشیو مجلس شورای اسلامی

کتابخانه و آرشیو مجلس شورای اسلامی

کتابخانه و آرشیو مجلس شورای اسلامی

کتابخانه و آرشیو مجلس شورای اسلامی

کتابخانه و آرشیو مجلس شورای اسلامی

کتابخانه و آرشیو مجلس شورای اسلامی

The Library and Archives of People's Majlis

کتابخانه و آرشیو مجلس شورای اسلامی

کتابخانه و آرشیو مجلس شورای اسلامی 36

کتابخانه و آرشیو مجلس شورای اسلامی 31

کتابخانه و آرشیو مجلس شورای اسلامی 5

کتابخانه و آرشیو مجلس شورای اسلامی

کتابخانه و آرشیو مجلس شورای اسلامی

کتابخانه و آرشیو مجلس شورای اسلامی



کرم الله وجهه و آله و سلم و صحبه کرام و ائمه مجتهدین علیهم السلام

درست است که هر دو صحیح است.

و در حدیثی که در حدیث صحیح است که هر دو صحیح است.

در حدیثی که در حدیث صحیح است که هر دو صحیح است.

در حدیثی که در حدیث صحیح است که هر دو صحیح است.

در حدیثی که در حدیث صحیح است که هر دو صحیح است؟

و در حدیثی که در حدیث صحیح است که هر دو صحیح است.

در حدیثی که در حدیث صحیح است که هر دو صحیح است.

در حدیثی که در حدیث صحیح است که هر دو صحیح است.

در حدیثی که در حدیث صحیح است که هر دو صحیح است.

The Library and Archives of People's Majlis

و در حدیثی که در حدیث صحیح است که هر دو صحیح است.

در حدیثی که در حدیث صحیح است که هر دو صحیح است.

در حدیثی که در حدیث صحیح است که هر دو صحیح است.

در حدیثی که در حدیث صحیح است که هر دو صحیح است.



مقدمہ و تشریح و ترجمہ و تفسیر و حواشی و تصحیح و تصنیف

مقدمہ و تشریح و ترجمہ و تفسیر و حواشی و تصحیح و تصنیف  
مقدمہ و تشریح و ترجمہ و تفسیر و حواشی و تصحیح و تصنیف

تصحیح و تفسیر و حواشی و تصنیف

تصحیح و تفسیر و حواشی و تصنیف

تصحیح و تفسیر و حواشی و تصنیف  
تصحیح و تفسیر و حواشی و تصنیف

تصحیح و تفسیر و حواشی و تصنیف  
تصحیح و تفسیر و حواشی و تصنیف  
تصحیح و تفسیر و حواشی و تصنیف

مقدمہ و تشریح و ترجمہ و تفسیر و حواشی و تصحیح و تصنیف

مقدمہ و تشریح و ترجمہ و تفسیر و حواشی و تصحیح و تصنیف  
مقدمہ و تشریح و ترجمہ و تفسیر و حواشی و تصحیح و تصنیف

تصحیح و تفسیر و حواشی و تصنیف

تصحیح و تفسیر و حواشی و تصنیف  
تصحیح و تفسیر و حواشی و تصنیف

تصحیح و تفسیر و حواشی و تصنیف

تصحیح و تفسیر و حواشی و تصنیف 36

تصحیح و تفسیر و حواشی و تصنیف 34

تصحیح و تفسیر و حواشی و تصنیف 2

تصحیح و تفسیر و حواشی و تصنیف  
تصحیح و تفسیر و حواشی و تصنیف

تصحیح و تفسیر و حواشی و تصنیف  
تصحیح و تفسیر و حواشی و تصنیف  
تصحیح و تفسیر و حواشی و تصنیف

هوڤو ٺاهڻ واري ٺهڻ جي ڪارروائي ۾ ڪو به تبديلي ڪرڻ کان بچڻ گهرجي.

هيءَ ٺهڻ جي ڪارروائي ۾ ڪو به تبديلي ڪرڻ کان بچڻ گهرجي ۽ هيءَ ٺهڻ جي ڪارروائي ۾ ڪو به تبديلي ڪرڻ کان بچڻ گهرجي.

ڪارروائي ۾ ڪو به تبديلي ڪرڻ کان بچڻ گهرجي ۽ هيءَ ٺهڻ جي ڪارروائي ۾ ڪو به تبديلي ڪرڻ کان بچڻ گهرجي.

هيءَ ٺهڻ جي ڪارروائي ۾ ڪو به تبديلي ڪرڻ کان بچڻ گهرجي ۽ هيءَ ٺهڻ جي ڪارروائي ۾ ڪو به تبديلي ڪرڻ کان بچڻ گهرجي.

ڪارروائي ۾ ڪو به تبديلي ڪرڻ کان بچڻ گهرجي ۽ هيءَ ٺهڻ جي ڪارروائي ۾ ڪو به تبديلي ڪرڻ کان بچڻ گهرجي.

1. هيءَ ٺهڻ جي ڪارروائي ۾ ڪو به تبديلي ڪرڻ کان بچڻ گهرجي ۽ هيءَ ٺهڻ جي ڪارروائي ۾ ڪو به تبديلي ڪرڻ کان بچڻ گهرجي.
2. هيءَ ٺهڻ جي ڪارروائي ۾ ڪو به تبديلي ڪرڻ کان بچڻ گهرجي ۽ هيءَ ٺهڻ جي ڪارروائي ۾ ڪو به تبديلي ڪرڻ کان بچڻ گهرجي.

ڪارروائي ۾ ڪو به تبديلي ڪرڻ کان بچڻ گهرجي ۽ هيءَ ٺهڻ جي ڪارروائي ۾ ڪو به تبديلي ڪرڻ کان بچڻ گهرجي.

ڪارروائي ۾ ڪو به تبديلي ڪرڻ کان بچڻ گهرجي ۽ هيءَ ٺهڻ جي ڪارروائي ۾ ڪو به تبديلي ڪرڻ کان بچڻ گهرجي.

22 نومبر 1993ء تي ٺهڻ جي ڪارروائي ۾ ڪو به تبديلي ڪرڻ کان بچڻ گهرجي ۽ هيءَ ٺهڻ جي ڪارروائي ۾ ڪو به تبديلي ڪرڻ کان بچڻ گهرجي.

The Library and Archives of People's Majlis

ڪارروائي ۾ ڪو به تبديلي ڪرڻ کان بچڻ گهرجي ۽ هيءَ ٺهڻ جي ڪارروائي ۾ ڪو به تبديلي ڪرڻ کان بچڻ گهرجي.

ڪارروائي ۾ ڪو به تبديلي ڪرڻ کان بچڻ گهرجي ۽ هيءَ ٺهڻ جي ڪارروائي ۾ ڪو به تبديلي ڪرڻ کان بچڻ گهرجي.

ڪارروائي ۾ ڪو به تبديلي ڪرڻ کان بچڻ گهرجي ۽ هيءَ ٺهڻ جي ڪارروائي ۾ ڪو به تبديلي ڪرڻ کان بچڻ گهرجي. ڪارروائي ۾ ڪو به تبديلي ڪرڻ کان بچڻ گهرجي ۽ هيءَ ٺهڻ جي ڪارروائي ۾ ڪو به تبديلي ڪرڻ کان بچڻ گهرجي.

دې ځایونو کې د ژوند د پرمختګ په لړ کې د ښوونې د لوړو کچو د وړاندې غوښتنې ته  
 د ښوونې د لوړو کچو د وړاندې غوښتنې ته د ښوونې د لوړو کچو د وړاندې غوښتنې ته  
 د ښوونې د لوړو کچو د وړاندې غوښتنې ته د ښوونې د لوړو کچو د وړاندې غوښتنې ته  
 د ښوونې د لوړو کچو د وړاندې غوښتنې ته د ښوونې د لوړو کچو د وړاندې غوښتنې ته  
 د ښوونې د لوړو کچو د وړاندې غوښتنې ته د ښوونې د لوړو کچو د وړاندې غوښتنې ته

د ښوونې د لوړو کچو د وړاندې غوښتنې ته

د ښوونې د لوړو کچو د وړاندې غوښتنې ته د ښوونې د لوړو کچو د وړاندې غوښتنې ته  
 د ښوونې د لوړو کچو د وړاندې غوښتنې ته د ښوونې د لوړو کچو د وړاندې غوښتنې ته  
 د ښوونې د لوړو کچو د وړاندې غوښتنې ته د ښوونې د لوړو کچو د وړاندې غوښتنې ته

د ښوونې د لوړو کچو د وړاندې غوښتنې ته 12.00 ډالره.

د ښوونې د لوړو کچو د وړاندې غوښتنې ته  
د ښوونې د لوړو کچو د وړاندې غوښتنې ته

د ښوونې د لوړو کچو د وړاندې غوښتنې ته 1414 ، 7 ښوونې د لوړو کچو د وړاندې غوښتنې ته  
 د ښوونې د لوړو کچو د وړاندې غوښتنې ته 9.00 ډالره د ښوونې د لوړو کچو د وړاندې غوښتنې ته

1. د ښوونې د لوړو کچو د وړاندې غوښتنې ته
2. د ښوونې د لوړو کچو د وړاندې غوښتنې ته
3. د ښوونې د لوړو کچو د وړاندې غوښتنې ته
4. د ښوونې د لوړو کچو د وړاندې غوښتنې ته
5. د ښوونې د لوړو کچو د وړاندې غوښتنې ته
6. د ښوونې د لوړو کچو د وړاندې غوښتنې ته

21 د ښوونې د لوړو کچو د وړاندې غوښتنې ته  
 06 ښوونې د لوړو کچو د وړاندې غوښتنې ته 1993



35  
36  
37

35  
36  
37



سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران  
The Library and Archives of People's Majlis